

چشم خیزی سپاه کردن معنی طمع دران چیز و این بمناسبت گرفتن
 عقیده کردن و آماده گرفتن شدن حسنه بمناسبت خواستن یا میگویی
 کردن معنی بغير فتن بچرا عرضیدن معنی توکل کردن یا رهگردان
 معنی هاز مرصن مملک و ماده ساخت بجای استفاده افتخار پشت چشم نماش کردن
 معنی آنزوشه شدن از راه نماز فسرزلفت سخن گفتار معنی شاذ و کارهای غلط زدن
 گردن، نهادن و سرتنا دن معنی اطاعت کردن گردن گشیدن
 پیچیدن و سرگشیدن معنی با فرمای شکوفه کردن معنی بگیردن تردد
 معنی خوشیدن تردد دادن معنی رضامند شدن گوش داشتن معنی نگاه داشتن
 پاسی از دشمن رفتن معنی نفرین پا آفتدان شخص از پیکار آفتدان معنی دشمن
 اتفاقاً مروءاً حلول شدن ترکیب وست پیکار دادن معنی همه پیکارهای این پیکارهای
 اتفاقاً رکن معنی غایبت کردن وست نیکزدن معنی در زیمه آمدن گردن از
 انسان خواه انجیوان دهش زیرینگ آمدن دهش زیر گوه آمدن
 عبارت از دیگر عبارت از اینها عبارت از اینها
 و چو دیگری پرسکستن محفل عبارت از اگرند شدن مردم آنچه برخود باید
 کنی از نهادن و فخر کردن در آب و آتش بیو دن اشاره باز اجازه
 درین در خود فرو رفتن و بخود فرد رفتن معنی شکر و تحریر بودن وست
 زیر نشخ داشتن و دست ستوان نشخ گشتن اشاره بجزالت تحریر گو
 ست نان بر دهن افتدان عبارت از دیگر آمدن به حباب مراد ای
 بجهشت نهادن معنی همراهی کردن بر کلام آب بر وست کسی گشتن
 کنی ای از دست آن شخص کردن شب در میانی دادن عبارت از دهد
 کردن خواهی و عددی که وزن خواهی زیاده کاشه گرداندن کنایه ای از در بوزگی
 و گردان کا سرگردان نامند چاشه کا خذی لوشیدن عبارت از هسته
 و دخواهی شعل بجهت گرفتن نیز بخوبی آیه جاشه سخن برخوبی

نیز ازین عالم است که بگل کردن عبارت از ظاهرا شدن را نقطه نزد
هشارت است بثاب رفتن کلا نفع گرفتن عبارت از سخرا کله
اگر خستن و بکله کوشیده برآسمان سودن عبارت از مشاهده شدن و شوق
کردن هسته مان برخاستن عبارت از ویران شدن خانه آس خسته
معنی بوز کاردن آسمان سوراخ شدن کنید از تواتر زول بازیگر پرسش
آنکندان بخی سفر و خروغ اکردن سفر و سفر کردن عبارت از خاموش شدن
سحد کیست کردن عبارت از فرمی و تک رویی است که مت
شدان فتح با دراوکاف بمعنی تمام شدن آینه خط بمعنی کشیده ای عبارت
از دکنه اقرار بجز بکشند خط کشیدن و اطمک کشیدن متعلق بمعنی بطریک زدن و خروج
کردن، پیزی باشد فعل و اثر و زدن عبارت از دکنه و خوش بیش زدن
که معمول بر مردم پیشیده ماند و پرسش امانت شسته مراقبه را کوئی و ملکه ای
را بر خط شدن عبارت از شرمنده شدن و دمکشتن است فتن معنی عالی است
فصل پنجم در تعلیماتی عارفانه و طریقانه و لطافت و دیگر

پنجم در تعلیماتی عارفانه و طریقانه و صوفیات

تلیست که روزی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم با حضرت ایام میان
علی کریم و مودع پیغمبر ایشان شسته بودند با چشم خرما بیخور دند و هر خرما کی را آنحضرت
بین خود و خرمان را از حضرت امیر وانه آنرا ایش وی جی بنا وند چون خرما تاکه شد
پیش بحضرت امیر وانه جمع شده و پیش آنحضرت علیہ السلام خوانه غلو و پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسیبل نزلیح حضرت امیر گفت من کش فواه فهو
اکل معنی هر که فان پیش اوجع آمد و باشد خرما بسیار خود داشت حضرت امیر
در حواب گفت من اکل غواه منوا اکل هر که خرما بازداهه تا دل کرده است او
سیار غور شده است تقلیست که میان حضرت عیسی و حضرت سنت

صلوات الیه ملیحه مناظره آنها دسترسی گفت اب خندان ببردسته کمی فرمودند
 زریان ببردسته سراخ بخبرت عزت فرستادند جو پیش علیه السلام صدیگ گفت حق شکن
 سینه را بپرسید که اب خندان را و دست میدارد من از جشنگریان چرا که اب خندان خفنل باشد
 گریان خفنل خود را آمیخته بفضل یافطر آوردند او لیست از فعل خونقل است که در فری
 امام علیس متوفی در آمد و به پیشوای شست متوفی در دستار امام زین مگرسی است دیر که عجایب
 قدرش افظیس است از سر قوش گفت ای هادی این دشواره بچه خوبه و فرمودند کس که برای
 من آورده سپاه خنه در حرم خردی است متوفی گفت اسرافت کرو که دستار پانصد
 برس هناده امام گفت شنیده ام که تو درین ایام کنیزک چیزیه ببردار و نهاده سخن خردیه
 متوفی گفت چنین است که شنیده امام گفت من پیاپند در حرم قمر و دستاری خردیه
 بزی افظی ترین اعصابی خود را ببرار و نیازمند سخن کنیزکی گرفته برای چنین پیشترین عجایب
 خود اتفاق بده که سرفت کیست متوفی از گفته خود نداند هم شده عنده خوب است بعقل
 روزی خواجہ سین ببری رحمۃ اللہ علیہ در بازار رنجبار و میگشت طیبی فرماد میکرد هر کجا بخوا
 دور دنی باشد زین دوایی او مکنیز شیخ را از گفتن اوجحب آمدی احتمال پیش دی رفت و گفت
 که من بخوب مر گفت چیزی دارم گفت سچنگناه دارم طیب گفت سچن قدری بار و مرگ صبر
 باوی بجهاد کن و همیز قناعت بدلیل تواضع در آمینه در یادون معرفت نیز بینست توفیق قدو
 بکوب در دیگی هشتادی ق تکفیر مینداز و بکش عصب زریان گن بیست هشت و بیست
 اخلاص نیز بندان توکل بخایی ما شفایی بیان قفل است از خواجہ سین ببری منی اللہ
 عزه که فرمود روزی مرا بر قافله زیارت خانه کمیه بیر فرمد خلک عصب نادم چهل سکاه
 کردم دیگر که زنی تسبیح بر دست صلاحت گفت مناده می آید سلام کردم حواب سلام
 طیب خادم خلوها خالدین داشتم که حواب سلام من آزادیت قرآن داد گفتم ای خیک زن
 از کمی بخایی گفت بخیج من چن ایش و والتر ایش داشتم که میگردیدیا و گشت پیروان
 بیشتر بادگشتم خانه کی زاری گفت سین الدنی اسراری بیش میخلا من ای سید احمد و ام
 که میگردید خانه و گشت المقدس دارم گشتم ای خیک زن کجا سیر و می گفت و ملکه

علی انسان حق نهیت من استطاع الیه برسد و داشتم که میگوید پایرت خانه کسری
میردم حیران بادم که این نیک زن حافظه است یا عالم هرچه بسیار از آنی قرآن
جواب در درسته کلام دیگر نکرد با خود گفت تو خود را عوی در دلشی میکنی پس گفت ای
نیک زن اچه نام دارمی گفت راضیه بمنی داشتم که میگوید راضیه نام دارم گفت دای
نیک زن خیری سخنواری گفت و ما بعد این جمیله الایا کهون الطعام پس داشتم که میگوید
یق شی ہیئت که طعام خود را شد و داشتم با وزادم و گفتم ای نیک زن آب سخنواری
گفت و چون من امداد کل شی جی داشتم که میگوید چنین زندگی از آب است پس آب
خود گفت ای نیک زن بر فتر سوارشوی گفت حسنه هم داشتم لاشنکر داشتم که میگوید کر
نیک کنی تیکی عینی بناهی نفس خود معینی سوار خواهم شد شتر را که ابا نیک داشتم گفت عل الامین
میضنوں من الصبار هم داشتم که میگوید پیشید چشمها می خود را از ناخن حیران چون
شد گفت سجان الذی سخننا هزا و مکماله سخنی داشتم که میگوید پاکی و نیز کی مردان حکای
ما که چنین جانور را سخن آدمی کرده است چون متزل نزدیک رسید گفت ای نیک زن
درین قافله کسی از این قویه است گفت ابراهیم ای ای و تعالیٰ اخذا لکت و کلمه است
حسی تجھیما پس داشتم که میگوید رسید پردازی ای ابراهیم و دیگری سوم موسی چون قافله فروند
گفت ای نیک زن خیمه فوج پشتان دارد گفت و علامت و بالخیمه هم است و این پس داشتم
که میگوید این قلاق این پیشید است نیک زن در خیمه خود رفت و از خود آمد گفت
من جای پیشیده در مضر امشد اما پس داشتم که میگوید که بیک نیکی خدا تعالیٰ ترا ده
نیک بدر نیک زن درون خیمه در آمد رسید پرداز آندر و در پاکی مادر و مادر دهی
فرزندان دید درخ حایث قبل کرد گفت احمد لعنة الذی اذیه هن اخزن داشتم
که در ملاقات فرزندان شکر گفت صرخ ای فرزندان را پس بدم که مادر شما در پی او
سخن نهیگوید گفتند ای گفتند خیمه خیمه داشتند و سب شنادهای باشد گفت خیر این دادی سخن نیک چند
گشت خی کردی نیک داشتم که بر سر شما خود بپرسید گفتلم ای نیک نیکی گفت سیال الصداق
عن صدقه داشتم که میگوید از و زندگیان ای پسند که شما دینیا چه کلام گفتند اید من کج رو خدا فدا خبر کنم

نکر و اصم خواه بہشت بخواه بعد از خستگی نیک زن حیت فرزندان شد
 گفت لا یکی داشت و دشنه را و میتوان چون این آمیخته خواندن غیر کرد مگر پیشنهاد
 گفت فلیکس خلو قلصه و لیکو کشید و خود را تهم داشت گفتگی حسنه چنین لذت گشته
 که بقیه ای خانم نیز کار نمیگفت بخوبی متعاقبین ای الرحمان و قداد سوق المحبین ای حبیم
 در و آدم و هنر تم که بیکوید آزوف زکه بخوازند متعاقبین را وکشا و داشتند گنبدکاران را بسوی
 دفرخ بینی پند و پیشیت سینه است که متعاقبی باش پس و فرع شدم و پیشیت نیک
 زن و دل گرفته و آنها خیال باشد علیه توکلت والیه ای ایشان قتل است که لقمان
 حکیم ای کسی بند ای همتر روزی خواجه بر جم امتحان گفت که گوسفندی که کش و بیرون
 اعفنا کی او من را همان گوسفند کشته دل و زبان را آور و روز دیگر جزو همه فرمود که باز
 گوسفند را کش و دیگرین بضمای او بیار لقمان باز دل و زبان آورد خواهد گفت اگر
 بیشترین احتمال دارد طلبیمه زدن زبان او را بیشترین احتمال خلیمه میباشد و زبان دیگر
 چون بیشتر از دل و زبان نیست اما آنرا بست دل و شیرین زبان باشد و نزدیک خواجه بر جم
 از دل و زبان نیست و وقتیکه قلمبیل مرتخ زبان باشد خواجه بر عقل و متر لقمان
 آف خواهد کرد و نیست ای لقمان آی بین قسم مردی خودی نبندگی ناراچه طور مقول
 که بی خواب دار و در پیشیب خود خواهد باز نبندگی خود آنرا و گردانید قتل است که
 لقمان را بیمار شد از سال معمول پا پنده سال غیر بود و برای خود خانه معاشره چون که ای
 متعاقب ارواحش بیسیور پیده که بین و دادی بگزرا برای خود خانه معاشره گفت کسی را
 که که پوچوی و بنیال باشد بگذاهم حیت خانه را تباکن قتل است ای عذر ای الله اکفان
 که وزه و تهیه صفت نان خواه بسیار کار بجوده زنان است بخود کردند بیان پوچوی و دل
 کار خواه از این است قتل است که روزی ای بیهیم او هم در بیانی برس خایی
 رسیده بآب صافی بتندرش آمد گفت ای کاش اگر بمن دلو درین بود
 تا قدر خنی آب کشیده نوشیده می نگاهد خل آسوان از بازی سدا شد و نظره چاه کرد
 فی المور آب بخوبی شد و درین بچاه آمد اگر آمده باش سیراب گشتند چون او هم خات

که من نیز شویشم آب فروشست ابراهیم او هم گفت با خدا و من امن ندیده آب خوشستم بالای نادار دی و بایی حیوانات بالا آورد کی نداشتم که امی ابراهیم او هم حیوان را نظر برداختر بس نبود نظر بر قدرت مابود و تو نظر برداختر بلو و رسیان داشتی ازان بجهت تشنیه مانع بی سیحان الله تعالیٰ نقل است ذوالنون علیه السلام میگویند وزیری همچو بن رودی کوشکی استاده عالی دیدم رکناره آب طهارت کرد و نماز حنوانه نیز ناگه نظرم را بام تو شک اقتاد و در مکنیزی خواهی بجهان روان کوشک استاده گفتسته امی کنیزی که تو کرا بی گفت امی ذوالنون چون از دورست دیدم من پر کشتم که دیواره پتو نزدیک آمدی داشتی که عالمی و چون زدیکی که آمدی نیز شد که بخاره و رسانی معلوم کردم که این هر سیمیچ گذشتیم حکم امر گفت اگر دیوانه بودم چه طهارت نمینمیگردی و اگر عالم بودی بنام خود منکر و تقدیر و اگر بخارف دیوانی شمیت بدوں حق خیامی این بگفت و اپرور شد معلوم کردم که این بخوبی و می بود و سیار متعبد شد مرا زادگان ایشی در جا نمیگرفت نقل است بحیی مسافر نیز باید بدمت این تعلیم که جیار لذت ایستاده خواهدم و ازین چاره زار بخارخن اختیم کردیم اول آنکه این لغتش را نگذارد و باید بداری قنایی کنی خوب و گرانه و زی اوصیه دیم تند امی لغتش را نگذارد گفت ام و داری محلی پیدا کن که خدا نه بینید و گردن آن گناه که من سوم آنکه امی لغتش را نگذارد خدا ای عالی را صنیع باشی خوب و گرانه خدا ای دیگر بکسر ترازا پیشتر در چهارم آنکه امی لغتش را نگذارد و از منع کرده من ای عالی مگذر و گردن از ملک ام و بیرون شو نقل است که شیخ بشیلی رحمه الله در باناره غذا داشته بودند و ختری دیدند صاحب حمال سر بر بنه بالای بام استاده شیخ گفت امی دختر تو سر بر بشی خی و ختر گفت امی کوچیخ تو چه پشم بمنی پوشی شیخ گفت ما عاشقا نیمها شقان حشمه بمنی پوشند و ختر ماستانیم مستان سر بمنی پوشند شیخ بزره بزرگی هوش آنها و نقل است که روزی احمد حرقانی کلاه منزی کوشیم در زیر در ختن شسته بود از خضرت صدیقت خدا رسید که امی احمد کلاه خود را پیغروشی گفت بارانی بتحمیش چه سیدی بی که هر چنان

دین و دنیا است قبیل نمایم و تو خود را زان باشی بخواهد که ستاد خانه میگوینی و منی آر
 اگر بیفراری همچوکس از زندگانی سر تبور جو عذر نیار داشت ائمی اگر من چشم حرفی از رحمت
 تو شجاعت رسانیدم تمهید است از طاعت تو باز زدن خود فصل است در فتحات الانس آور
 هک شیخ فتحی الدین عبد القادر حسینی قدس سرہ که نیست وی ابو محمد است علوی حسینی
 نبیره عبد اللہ صویی است از جانب ما در وحدت اصلی اصلی اصلی است اسجا بر فاطمه
 نفت ای عبد اللہ الصویی گفتست که چون فرزند من عبد القادر متولد شد
 هرگز را او در رمضان شیرخوارده است اخ بعلوی شد که آزو زیر بستان بوده است وی
 گفت که خور و بود صر روز عرقه بصحر زیر ون فتحم و دنبال گاوی گرمه آن گاو روی
 باز پس کرد و گفت یا عبد القادر مالهذا خاتمت ول امداد امرت بترسیدم و بازگشتم
 و بر بام خانه خود را آمد و حاجیان را دیدم که در سعادت استاده اندیش ما در خود
 رفته و فتحم مرادر کار خدا تقدیم کن و اجازت داد بینبند اور وم و تعقیم مشغول
 شوم و جهاد کیان از یاریت کنم بگیریست و برخاست و شنید دنیا را بر ون آورد
 که سیر است پدر بانزه بود حمل دنیا بر زمین برادر من گذشت و حمل دنیا را بر زمین بغل است
 در جامد و دو عنت و مرادون سفر کرد و مراده در پر صدق در جمیع احوال خوب
 کن بیرون آمد و گفت ای فرزند برو که رای خذای تعالیٰ تبار برهم ذمی است وی ترا
 شخواهیم دید با قافله از کسی بجانب زندگانی در فتحم چون از جهان بگذشت شکش صد سوار بیرون
 آمدند و قافله را بگرفتند و همچوکس از اقران نکرد نما کاه کی از ایشان برس گرفت و گفت
 ای فتحر با خود چه داری گفتم حمل دنیا را گفت که بست که هم در جامد من دوخته است
 در زیر بغل من مردگز است و برفت دیگری بمن رسیده ایان پس سیر و همان شنید
 اونزیر مردگز است و برفت بعد از این هر دو پیش هست خود را فتحم و مراده در زندگانی
 من شنیده بودند با وی گفتند بپالایی که اموال قافله را استهست سیکر و نزد همراهان
 بمن گفت با خود چه داری گفتم حمل دنیا را گفت که بست که هم در جامد دوخته در زندگانی
 نبل من لفڑی نمود تا جامد را بشکنند و اینچه گفتند پویم یا فتحم دلیل گفت ترا چه بدن

داشت که اعتراف کردی گفتم که ما درین مراعمد داده است پرصدق و درستی
 و من در عهد وی حیات نمیکنیم پس مسترا شیان بگوییست و گفت چندین سال است
 که من در عهد وی پروردگار خیانت میکنم و بودم تاکنون و پس اصحاب گفته را تو در قطع طریق
 مسترم باوری اکنون در توبه نمیزیر مسترم باش مملکه برداشت من توبه کردم و اخیراً از قاعده
 گرفته بودند باز زادند و اول تماشیان از دست این ایشان بودند وی در بعد از این دست
 تحصیل علوم مشغول بشداقبرات قرآن و تفقه و حدیث و علوم ادبیه پیش از آنکه
 که در آن زمان متین من بودند و باز که روزگاری بر قرآن خود فانوس گشت و از آن
 زبان حزو متین شد و پس اکرامات خواه و احوال و مقامات عالی بوده است وی
 گفت که پانزده سال دیگر بیچاره شدم و با خدا تعالیٰ عهد کرده بودم که تحویل ناخوشید
 ولعنه در دهین هن نه متفاوت و بیان این مقدمه شاند بکجا حبل و زمیح نخواهم بعد از این
 روز سخنی مدد و قدری طعام برداشته اند و بمناسبت نزدیک بود که نفس من بر پایانی
 طعام افتاد از پس گرسنگی گفتم و اللهم ان عذری که با خدا تعالیٰ بسته ام بر بگردم شنیدم
 که از بهترین من کسی فریاد نمیکند و با او از بلند میگوید ای جمیع شیخ شیخ ابوسعید حنفی قدس
 سرہ بپس گذشت آن آواز شنید گفت عبد العزادر این آواز پیش گفت این حق و
 اضطراب بعنیست اما وح برقرار خود است در مشاهده خدا و نزد خود گفت سخنانه ما
 بیک گفتم من از نفس خود بروی نخواهم رویت ناگاهه ابوالعباس خضر علیه السلام در آمد
 و گفت پر خیریش ابوسعید گفتم دیدم ابوسعید بر در خانه خود را ستاده است و انتظار
 من می بود گفت ای عبد العزادر اخچه من ترا گفتم بپس بود که خضر را می باست این
 گفت و مرا بخانه درآورد و طعام می که میباشد بود لعلی گفته در دهان من می سنا و آن شد
 بعد از این مراغه پوشا نید و صحبت وی را از هم گرفتم که آدمی زاده را با پر که سخن را
 و صاحبان پیشید تربیت نیک پروردی که پیش میان وی میان پیشید که باقی تقریب
 اینهم کند و هر که عقل بدارد و جایی بی میان پیشید اینهم کم کند و هر که عقل نداشته
 بی میان پیشید و نام خویش آدمی خواهد بینی کس که این فطوح پیش است چند

که نام او آدمی خواند و مادرش نیز عجیب است که فندر زند او بی
علم و سیلے هنر باشد آن چیز ان فندر زند نزا ده باشد همیست

تقلیات طریفانه

تقلیل است چون ملاود و پیازد با صفتان رسید و غصه ملازم است بادش هد کرد
بار بخی یا فلت از حاجب گفت بر و شاه خود گیو که اسپر خدا بدرین شما آمد هست
و اجازت دخول سیخواه را در فتنه همچنان یونص منود شاه داشت که مردمی همکنده
حضرت وادچون دوچار شد فرمود گر تو اسپر خدا ای این خواص من جشم
بلی دارد خرابخ گشته گفت بلگرداشت شوهر روزی که از پر خود خدا اشید من پیغم
نمایت عامله بالا تعلق بخود گرفته و کار سازی عالم پایین سبب من گذشتند گردد
پایین شغلی و هشتاد هاشدن قدرخ گردد بدجه تقلیل است که روزی شاه پرسید
که ملا از سخن رفاقتی مشیود و مازا ز راضی سخنی مشیود و خلوست گفت بلگرداشت
شوم خیا سخن از طعام گر مشیود و باز از گهه طعام مشیود تقلیل است روزی ملا آزو
هر راه بهد بخان رومین بسوار رسید چیزی نداشت اسپه لالا گوز کرد نواب از راه سهلا نسبه
دو و که ملا سبب ذچه سیگوید گفت نواب سه مسحت چزیری و مندان شیخ پیشوای
من شیخ چشم تقلیل است که زنی نیز در راه رسید چی شارع نشیخ گفت
ای زن پیش مرد و که سفر حضرت کند خواهد شد گفت مرید کند هم شود این چیز تقوی کا

لطائف عجمیه

لطائف زنی جمیله شوهر بانزد عاصی آورده گفت زنی جوانم و شوهر بحال نظر
نیش کند و شب بجهش پشت بجانب من خواب میکند و گفته امها العاصی
زخم ورع میگوید من هر شب سه مرتبه خدمت میرسانم و زیادت بین قوت
نذر اهم او گفت من بکتر او پنج نوبت خرسند شیوه و پنج حال بازین محدود گشتم
عاصی گفت بحیث حال است که آیه دعوی آپشیز میگفتاد که نه مراد در سران
چزیری باید فرو را کنون برای قطع خضوع است شناسن دوبار دیگر بخود گرفت

نامه و پیچه نشتمان شود و نتایع از شمار برخیز مرد گفت روزی قاضی شفعت و سرمان
و حنی قاضی متین و سلامان الطیفه روزی طبیعتی ماده روزی پادشاه آورده
که هشپش در و میکند گفت پایی پادشاه اخنا باشدست چنانچه سرای حاضر بود
اعتراض کرد و گفت ای طبیب شیخ پادشاه در و میکند تو پیا خاصی مندی گفت
پارا با خشی چونست سرت چلیب گفت خصیه ترا نیخدان چه مناسب است چنین خصیت است
را بپرون کردن موی ریخته دان تو ترست پادشاه ازمه رضیده او بخندیده و ای چلیب
جواب پیشنهاد او را سب و خلعت داد و طیفه ای بدمیس به صهیان و آمد
و اطفال محلات خانگ سیکردن سنگی پسرش آمر و سرش مشکلت و عاجله
خوان آکوده کشت و دران شهر دستی داشت همچه روزگشت و اور بجست تابعه
نمای خفتن یافت نیابت گرسنه بود اتفاقا قادر خانه دوست او سیح خودی بنود و دوست
بازار سیه بوقتیار فرد شد علی الصبح بجهد و زیر رفت او رسیده باین شهر در
کدام روز آمدی گفت فی يوم سخن ستر گفت در کدام ساعت گفت فی ساعت
العسر و گفت کجا زول کرده بودی گفت پاد غیر ذی فرع مندی گفت بدی او را بحسن
و افر منون بساخت

اقوال ملا و سپاهزاده

اسهد امی خانه بعیا الرسول خیر خواه و سخنان الفرشته خدی خنی الامام
کلکت پیش و المقتدری کون پیست امام الیا و شاه کامل زبان اشنازه
هم اسکر پاده شکم مادر هبتر العاصی سخ دهلی وزیر نشیر آه بی جایی
الواقعه نویس گری بکشید بیویان موش الفوطه دار برب غیر جوان مرد
الکبوتو وال عنده هک الموت لمحتب آلت قاضی ایچوکی قویس گلبه
دران القدمی یا بوبی اینگ سپ طویلی الماءه نه دار عمر کوتاه احاجی
ایین فروشن آلمحا و درگیس بیان الشاعر کان کذب الطیب پیش
اصل السیار نخست شش بیان الکوشش شیخ نفت خود اخواص مند

تیان باشارت کند النائب وزیرت محروم الرؤسیا کس که نه
البینت علیه زنی که شوهرش آلت درازدار دمیوه فروش شغال
سبله و مدان الگفته خاب شهر المیانه را لت شهر الصاحفه الدینه که نجعه
تیان الزیارت نگاه سعادتگاه منق الاصرور نهای شوت العاقفه لسل
گیرخواه از ارشاد دست اویز متکران الشوهر زن بدکار رسان
باشی گامست آلبوسه وکیل ولی اسحا قطف خواه ضد املاک این چو
آپشت این که علاوه نکسر بنا شده الملا گیوزدین همچنین

رقصه هرز اعطر زلی

ای غریب پر تمنی ایچی بحاشت سید ای که قدر از حساب نشود از طبعه هما کانو
کمیون بحق است میخوانی پس چرا دن بزین در چنگها و پوآ و عکی و دوام نگذاری
و میل و منارد در بند منقوص بیشترین و سوله سار سیانی و در بازی اهلی و محفلی چله
بیشتر دخود سید ای باید که در ما نجید بار تو تو ای الله فویتہ لطفیو حاوی کی زن
ماگسافت عصیان بطرف شور و آندره تازه نگانی و گور که دخنه دنیا و خوش
اشرقی و روپایی بی نیت عما فی کھول کھال گھینه کی پنج اطمینان کرد هم آیده تو داده

حاتمه از مؤلف با سمه سجانه

یکانه دادار جهان آفرین ره سپاس گزارم که نی نوع انتان با انجاعت
فاخره اشرفت و او بیت از جمیع مکننات امتیان بخشیه و انبیا علیهم السلام
سماکه ایین و دعیت خاص و جمله ای انسان قدر داده او شیر بایی مدایت
وارشاد عالمه رایا سبیوت فرموده قلوب خلق الله را از خلقت کفریاک کرد و نتو
ایمان منور گردانید و خباب نبوت هاب حضرت محمد مصینه احمد مجتبی بخلیه و علیه
و دصحایه لتحیتہ والثنا را پسالت و محبوبیت خاص برگزیده و اسطه آفرینش
کائنات سخت و ایست مرحومه آنچی رئاست ائمه را نیز ایان نزد
لتمیل احکام شرعیه موعود اغمامت و اشغالیه فرسوده محسود احمد رضی کرسته

و این ناگشناهی کوی بخوبی را با نوع مراجع خدا وندانه متل اندک بسک
 ملقه بگوشان ام است محمدیه و توفیق تحصیل علوم دینیه و فنونه انج چیز
 و اعطای قوت در که سفنه مین عاریه قدر و صاف رنگهای ترازو از رادا هست طبع
 ارباب فنون و ذکار و مالیت سفنه دلکش و فکار است افراد که حملی از دلیل
 خواهد بود فواخته گزیده سامانی فرامیر و ارجاع از عنوان اصلان بحث پیدا کن ارعانی و
 گام فرسایان طرق دشوار گذاشتند این اثنت که سه گام تفريح این گذشتند شد
 و مصالحت این مشوقی از آرایش اضافت بر تلاش دلکسوزی و جانشایی
 این خام کار لذت فرموده بگشین دفعاتی خیریه و فرمابا شد که همه را سفر آزاد
 در پیش نشسته علاوه بجهرا یه یادگاری بیش فی القبول سعدی شیرازی عذر از جسته
 سه بماند سالها این لطفه ترتیب + نماه ہر فرد خاک رفتند بجا فی
 غرض فتشی است کن زنا یاد مانده + کیستی را نخنے بنیم قبائی
 مگر ص حیدر لے روزی بجست + کندور کار این سکین دفعاتی
 و آخر داعو از آن اکحمد الله رب العالمین و اصلوۃ والسلام علی سید نا
 و مولانا محمد و آن و صحبه اجمعین بر حسن الرأی حمیم فتحظ +

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حری ساز و بگرد وس بیکانر بی نیاز کو لائق ہی کہ جسکی نوادرش و افضل بختیا
اوسم خاکی خرا دکو کہ خیر طبیعت او سکا کیفت ترین کراہ حالم ہی رتیہ اولویت
اور اشر قیمت عطا ہوا اور سینہ بے کینہ او سکا خون اسرار خاص بانی ترکو
چنانچہ آئیہ کریمہ انما نہ صلی اللہ علی السنت وآل ارض والجہال فائیں کن کجنبنا
و اشقق منہا و جملہا الامان اند کان غلو مکا جھو لا صدق اس حقال کی ہی
او شحرخواجہ حافظ شیرازی علیہ الرحمہ کی سبی اسی کلام کی مودت ہی وہی بنیاد
آسان پار امانت نتو اشت کشیدہ قرص خال بنا مسن و بیوانہ زوند اور درود
و سلام نہ مدد و داوس جناب بالاں اور او سکی آں دا صاحب پیش کرتا ہے
کہ جسکو مرتبہ خلافت عظیمی نو رسالت کبڑی عنایت ہوا اور خاتم رسول و زبانی طبل
قرار دیا کیا اور قرب و اختصاص نئے باین درجہ ترقی پائی کہ پیشہ شریعت و فتن
فتولی فکان قاب قوسین او ادنی کی مشرف ہوا کہ کسی فرد موجودات کو
مجکن نہیں سملو اعلیٰ و آلم و سجدہ اجمیعین اما بعد غریت گزین زادہ و خسول فرمد
کوئی گمانی اضطرف بجا و رب المشرقيں محمد سین خوست احباب نہ مدد
الناس کرتا ہی کہ ہرگاہ تالیف مقالاتیں اولیئین اعنى عربیہ اور فارسی ملک باحسن
وجوہ نجاشم کو پہنچی حسب وحدہ کریمہ بیان جان پھرست باندہ کرسکر مہم تھوہ
و تصویر مقالہ شاشه زبان ا روکی کہ ملتو پیغمبر مسی ابدار و شرون پہ نشر ہاسی شری رکا
تشاہزادی ہوا آور یہ مقالہ بھی موافق ترتیب ماقدر کی منتقل ہی دو یا ب پردازی در فرقہ کا
نظم اور دو سیزدین شرطیور تاریخ و جغرافیہ کی خدمت ہوا تاکہ یہ سبی مثلاً متن ہنافرست کو
بامرأة اور درود کا

سابقین کی مکمل ہو جادی خدا یا مقبول ہمباخ خواص دعویٰ ہوا و بیہرا خاستہ
بطفیل چناب سید ابرا رصلی اللہ علیہ و سلم کی تحریر کرائیں تسلیم
مقالہ تحریر شد اور کریم نظر و نشر زبان اردو کی منتشر شد و با برق
پاب پبلیک کریم نظر کی اور اس باب میں پا سج فصل میں تحقیق کریم
فصل دوں میں فضای مدعا و محسوس در ترجیح بند ڈا وغیرہ لیات بطریق خدرو
و تقدیم کی مندرج ہوئی قصیدہ کرامت حملہ تحریر سید حمیدی محمد میں

ملکو نہ بکار اسم رح تعالیٰ و فیل کا
روٹی خریز پھر میں ہی خال نہیں کا
مفتون نہ کوئی کسی حشمت کی جیل کا
گردان چاونکی خون نہ تو نہیں کی قتل کا
رس و بید میں نہ محور ہون بیڑیں کا
سفوہ متحدی عدیم دعیدیں کا
بید و دہنی عیق و عرضی دملویں کا
حاجی خریز پسی ہی فرد نہ ترذیل کا
کسب ہو جریئت شکر اصحاب فیل کا
تخم شدیدی جیسی گلستان خلیل کا
سائے میں داؤ کی ہوش اوڑا جنیل کا
چشمہ بشقیون پا کھلا سلبیل کا
سیل کر کر کو حکم ہی آب سپیل کا
کیون ہی کریم پر تجی شجہنیل کا
کر تو علاج اپنی مزاج علیل کا
نورافق میں جلوہ ہی کمیج رسیل کا
اگی قدسہ ترکہ کہ لہشان کمپے جیل کا

حسن سخن ہو صفت جمال اوس جنیل کا
او س خور کی دائرة میں عیان نقطہ پس
صرمہ بنائی گرنہ تیر احشواہ طور کو
گریجہ چوخیں تو نہ صریان کا بنس کی ہاں
قصویر ایک ائمۃ افواح مختلف
کل حاجب الوجه تو جز مسکن الوجہ
نقطہ کی انبساط سی ہو خط و سطح جسے
ہفتہ انسان پن شجسی حصائی رہا
تیر اس اڑا گر نہ تو پیش عیصف کو
جنت او گاہی نار سی تیری ببار
طانش کو جامنیں تیری قصر جلال ببر
دریا می فیض سی تیری قسطرہ ہوا جن
مرضی سی اپنی کوئی ہو یا ان تک شہر بلکہ
کر سہتی سی جبکہ زختیا ر تو
صریں قدر ریکیں کو شکر کو میان نہیں
کہ کسب و انتہا کار و اون یعنی
باید اس طریق کار و ساق ہر س

پاکان ہی باہم درکیپڑت کے فضیل +
موسیٰ کی خوس کو ہی گذر رو دنیل کا
موٹا ہوا ہی پی کی بہت دوچینیں کا
ساخت پری ہی حضرت رجلیل کا
کم پیشتری ہی ستارع قلبیل کا
مشون ہو روان حسنہ اور دلیل کا
جب عفو عاص کا مرکر بکا و کیل کا
تکیہ ہی اس فقیر کو کیسی کفیل کا

آدھکی حرمیم قدس میں نہیں ملتی
چاہے بھی جا کی خلز مرغ خانہ میں تر نہو
سیرع خاتم میں بھی سیکھانہ میں
علوف کا وہم و خشم پہنکتا پھری وی
پیش روہ پزار عالم قدرت کا تبا جبار
وہ لقضائیں ترمی حکومت کے ای کڑا
جنوئی پڑینگی نامہ اعمال روز خشی
حرص و طمع سی کیون نہ شستہ میں

وَصِرْ كَرَامَتٌ عَلَى حَضْرَمَتٍ بَشَّارَدَى لَغْتَ مِنْ

ظہور حق کی محبت ہی جنابین نور احمد کا
نہ تھا نامہ دلنشان جن رفرعون ہلکی خاتمہ کا
پھر آفٹرنیشن ایک دوستی اوسکی سکھی کا
عرب میں شورا و همایہ جد مصہ اوسکی ایجاد کا
نہ تھا فخر حالم فخر تھا اپنی اس بودھ کا
محبوب ہب بیاد تھا روح الائیں بھی جو
گیا جنت میں طوفی نیکی سایا اوس سمی کا
بیان اوس قدر مصہ مخفی کا کیا ہو جذر اور بد کا
کہا کہ تراہی فی کنجی ہمیشہ قضل ابجد
ملا ہی خصر اخضر و حکلو اوسکی زمرہ کا
نہ پتا صفر اگر البت احمد پیر نعمت احمد کا
تیری سید جدہ سے کیا شتم آسمان پر فرق فرقہ کا
خواصی دس بزرگی کیسری میں ہنا فرشتہ کا
تھا ہی خوش ہو دے ہانگی دا صراور دو کا

ملوک و ملکیتی میشان بہو سمجھا آئی
و بستان ازال میں وہ معلم عقول کل کام
چمن پیرای کن فراش دسکی بزمین
عجمیمین زلزلہ نوشید و انکی قصریں آیا
شوف حاصل ہوا آدم را پر ایکجا اوپر کا
شب دروز را دسکی حصہ جزا دن کا خیزان
وہ اس عالمی میں سوچ کجھ تھا حور و نکی سیکھ
وہ چڑھ کر باضم صحر عرش پر دم میں روتا رہا
کشو د عقدہ باطن میں کافی ہم حق او سکو
گرافی نکی جا فکلی د وہر ایڈیشن اند ٹریو
گذر وحدت سی کشت میں نہ تو ناوازات مطلقاً
تیری پابوس سی ہفتہ فلکت کرنے کیون
اوہہ الرسمی و لاصل د وہر مخلوق کی شامل
عدیت کی زمین کی گز نہ لائی تھی میرا لاش

قطر جیو قوت ٹوئی تھل اسٹر روح چھپر کا
کبھی میں دوڑ پیٹوں اور کروں نظانہ
نہ مالون سندھ ہرگز کسی ندی و میر تک
تیر دست و عاضا سن ہی جبکہ جس کی
زبان پر تیری جسد نام آنا ہی محمد کا

ہی درخت پر تیری رو ضمکے جا بھی
لبھی خرد بکیر جا کر استانہ پر طوں آنکھیں
نہ چھپس انہوں نیکا پیر اپنی کا بھی ایمان
خدا بن مانگی کیا کیا لغتیں دیتا ہی پندرہ نکو
خدا من خجھوں لیتا ہی شہیدی کا مسجد

محبہ بہباد رضاہ خلص رطفر قدسی کی غزل پر

دیکھ کر شان تیری حرش کی بھی شان فی
حربا سید مکی مدنی العربی

سرور اتو وہ بھی جبکی نہیں بعدی
امہا بھسی کہیں وقت شفاقت طلبی

دل وجہان پا د فدائیت کے محب خوش بھی

ہی تیری نور سی ہر نور صدو ش اور حرم
من بیدل بحال تو عجب تیر نہ

ہی تیری جلوہ سی سجو دلائلک آدم
دیکھ کر حسن کی شیدا تیری د و نو عالم

الله اللہ چہ جمال اسست ہیں بو اچھی

چمکو گر خالق کو نہیں نہ پسیدا کرتا
پس تو یہ ارض و سماہو قی نہ اصلہ
نہ بھی نیست پدا شد تو بھی آدم را

گرچا دلادیں آدم کی ہوا تو پسیدا
ہر تراز عالمہ د آدم تو چہ حالی سبی

ابرا حسان و کرم سی تیری کیا رہا
شہر خلق سی نہیں تیری جہان تیرین کام

ای تر و تازگی افزایی ریاض اسلام
خدا بستان مدینہ ز تو سربر مراسم

زان شدہ شہرہ آفاق تیرین رہی

و پین نازل ہوئی تو ریت او راجھل و لبڑ
ذرات ہاک تھوڑیں ملکے عرب کر دھلمو

موسی و عیسی و داؤ و جہان تھی مٹو
اوونکی ہر خاصیت با نہیں کہ نہ فهم سی دو

زان سب با مردہ قرآن بزرگان عزی

دیکھی سب بارع و بیشت ایکی سی دیکھت
شب سحران حروف تو زاغا لگا کہ نہ شست

جب گیا سوچنے لگ کر کی زہینے طی دست
کر جھا لاشن نہ چرخ کا جب تو گلشت

<p>بہتائیک رسیدی خرید بھج بنی</p> <p>اُنی در پر شری آنکھوں کو لگ کر کی قدم لشبت خود بگست کر دم و سس تنفلم</p> <p>ذانکہ لشبت بیک کو سیتو شدی اولی</p>	<p>وہ فرشند کر جوی حبل عرض حلم</p> <p>قوارب سی میہ کی کما کی تیری و مکش</p>
<p>آئی سحر ای قیامت میں طلبگار نجات ماہرہ شدہ لسانیم و توئی آجیا</p>	<p>سوز جیان سی بہر سو خند جب خملقا</p> <p>کہیوں پر حشیشہ احسان گانے اشنا تیری</p>
<p>حسم فرم اکر زحد سیگز رد شد نہ لبی</p>	
<p>اواد سی طرسی بھار کا بھی حال دی سیدی اندھی و طبیب قلبی</p>	<p>ہی طصر کی دل بیار کا بھی حال دی کہ کیا آگی شنا میں تیری جسے قدمی</p>
<p>آمدہ سو تیوقد سی بی درمان طلبی</p>	
<p>ترجع بند مو لوی عنده صرام مصلح</p>	<p>بیہد لعنت</p>
<p>قررتا کی او اجا منزہ سی با کی پیون</p>	<p>سرہ کین انکہ عرض نیاز بہری وہ چون</p>
<p>وہ عمارہ کی سجادہ وہ چین دوں اور وہ مکہ ری کی تحلی وہ بیاض کروں</p>	<p>دل رپا پانہ وہ فتار وہ بیسا خشن مردی بھی وکیں تو کر چاک کریاں</p>
<p>اوٹھیں قبر وسی پتاش بانپر میہن</p>	
<p>مر جا سید ملی مدنی الربی</p>	
<p>دل و جان باد فدا بیت چھبھٹی</p>	
<p>آمد آمد کی جوا غلاک پیہم تھی دہوم</p>	<p>عرش پر مرتبہ بیں شرقی جاتا تھا جھوکا</p>
<p>اوڑہ لفتش قدر سہ پر تھا فرشتہ کا ہجوم</p>	<p>کوئی رکھتا تھا جمیں اور کوئی لیتا تھا جھوکا</p>
<p>او سمجھ کر آنکہ بچھاتی تھی تھت سی جھوکا</p>	<p>پا کو رکھتا تھا جہاں ناز سی وہ جو علکی</p>
<p>او کسی غم سی بہوتا تھا میہن ضمروں جوم</p>	<p>کوئی کرتا تھا ادا غستہ دیکی رسک</p>
<p>مر جا سید ملی مدنی الربی</p>	
<p>دل و جان باد فدا بیت چھبھٹی</p>	

بولا جبريل معي بعد حسین حسن
او شه کی پھر کہو لدیا قفل در چرخ کمن
دل من داند و من خاتم داند لمن
کاہ کتنا تنا سیر قدسیہ جہا کر گردن

پونچہ جبریل مسی میرے چرخ کی در بان کمن
قال والله نقدر جا، بوجسہ احسن
گفت شو حمیکہ بیل واشتم اسی شاهزاد
کاہ آنکنوں سی لگاتا استوار دا کہ دا من

مر جہا سید علی مدینی العزی
دل و جان باد خدا بیت چجنجو شنی

بجہ کئی صردر خشا نکی خلک پر تقدیل
کا اسی راہ سی گذر لگا وہ فرزند حبیل
کہیں یوسف تھی کھڑی دکھیں اسماعیل
جب ہوا نعمت سر اسرور ہیں یون فیصل

جب چلا چاند مدینہ کا سوہی رس جبلیل
شیر فردوس کی کہی کہیں آن مقمیل
فرش خلست کا چھاتی تھی کسی جا خپل
روح پر فرح لگی گرفتی براہ تبعیل

مر جہا سید علی مدینی العزی
دل و جان باد خدا بیت چجنجو شنی

آپ ہر روز آسی طور سی آیا کرنی
اپنی کپڑوں کو پسینی میں بایا کرنی
او پھر قدس آنکنوں سی لگایا کرنی
سانہی سہم پیدا کھڑی ہو کیتا یا کرنی

حورین کعین تھیں کہ ہبھی کو جایا کرنی
رخ لالگون سی عرق پوچہ کی لا یا کرنی
پیشو اسی کو بہت وہ مسمی جایا کرنی
آنکو سخت زمرد پیٹا یا کرنی

مر جہا سید علی مدینی العزی
دل و جان خدا بیت چجنجو شنی

بولا خوان کہ بہلا سیری کمان پین بین
صد قدمی آپکا جو خلد پین ہی چیزی محیب
مگر است کی کمانوں کی دکماون تشریب
عرض کرنی لگایوں جا کی سواری کی قر

علی ہوا سیر کو فردوس کے آفی پین بیب
پیش کر شکری کیا کروں سالازر کیلہ زن
کوئی دعوت کہیں بنتی ہیچ بسی خر
قاگان افی لگلی کامن بین او از نقیب

مر جہا سید علی مدینی العزی

دل و جان پا د فدا بیت پچھبجھ نوشی

<p>العل کی پہول سبی ہپول اسنا تو موکھی جب یعنی یا قوت کیمین اور کمین پیرا تھا کر یقین سبکو متباہی نور کے سا بھی میخ طلا و مبدوم دلو لہ شوق سی متباہی را</p>	<p>نور کا ہر شہر خلدنی چاہدہ پہن شاخ مر جان نین زمرد کا لکھا پتا عرض اور طول میں ہر خل تھا موزونا اور ہر لوک شاخ پا کر کن عتوں ان کھان</p>
<p>مر جب اسید مکی مد فی العربی</p>	<p>دل و جان پا د فدا بیت پچھبجھ نوشی</p>
<p>اون گلیان او شہنی لگین دوسی وہ اود منی ہہنی تو اس حسن کا ویکھا دھنا سب لگی کہنی کہ ہی سایہ ذات بکتا آدمی ہوتا نواس ماہ کی سایہ ہوتا واہ کیا حسن ہی کیا بثاثن ہی می محل</p>	<p>اون گلیان او شہنی لگین دوسی وہ اود منی ہہنی تو اس حسن کا ویکھا دھنا سب لگی کہنی کہ ہی سایہ ذات بکتا آدمی ہوتا نواس ماہ کی سایہ ہوتا واہ کیا حسن ہی کیا بثاثن ہی می محل</p>
<p>مر جب اسید مکی مد فی العربی</p>	<p>دل و جان پا د فدا بیت پچھبجھ نوشی</p>
<p>متاز با نون پ فرست نکی محمد کا نام ما نگتی جاتی متین حوران بہشتی انعام شام سی صبح تلک صبح سی لیکڑا فک حوض کو شری ہوئی حجج جو سخا حصن نا</p>	<p>کوئی جو می خمار کا بیو روئی تھا می متاز ا بغاہ بہتی جاتی متی درود اور سلام رذ فوارہ او چلتی متی چلکتی متی جام جام سی قلقل ہینا کامیہ تھا طرز کلام</p>
<p>مر جب اسید مکی مد فی العربی</p>	<p>دل و جان پا د فدا بیت پچھبجھ نوشی</p>
<p>سرنی فرش تامی کا بچسا یا جوتا نام چاندنی پر جوستارونکا ہنا یا تھا کام مر کب اندرا نجمل سی او شہناتھا کام ملک و جن و بشہر کرتی متی جبک جبک کوک</p>	<p>با دہ نور سنی ببر نیر ہوا او سکھا جا ماہ کو حسن ملاحت سی ملی شہر خاص ذ تو آیستہ ہی چلتا تھا نہ تھا تپڑ فرام حور غلانکی زبانو نپہ میرہ جاری تھا کلام</p>

<p>مرجیسید کی مدنی المرے بے دل و جان با و فدا یت پچھبے خوشی</p>	<p>اس ملبد کرنی سی طاوبے ملدب سیہ ٹاپ تو سین کا عقدہ میرے شب و صل حلا مل گئی دلو خدود ش اور قدم کی دریا جب وہاں دری کا اسطور سی نقشہ ترا</p>
<p>مرجیسید کی مدنی المرے بے دل و جان با و فدا یت پچھبے خوشی</p>	<p>جس طرح کھین بلاتا ہو دلمہن کو ز شاہ سب سواریکی جلوکی لئی ہو گئی ہمراہ داری خوبی جہاں جہاں دیکھ کے بولیں کے خا تا وہ محظی میری طرف ٹرکی تکاہ</p>
<p>مرجیسید کی مدنی المرے بے دل و جان با و فدا یت پچھبے خوشی</p>	<p>خو شا لا عظیم کی جیکی کروں جان زیر قدم تمہری دیمار سی جان تازہ ہی و دل خرا وین دنیا کی بنی جس سی ہوئی عظیم عرض کرتی تھی میری آداب سی خوت الامم</p>
<p>مرجیسید کی مدنی المرے بے دل و جان با و فدا یت پچھبے خوشی</p>	<p>پہنچی جب هرش کی نہیک شمشناہ اہم شہ فرمایا کہ اسی شمع شبستاں تقدما میرا فرند تو ہی نور تکاہ ع لم آپ کرتی تھی دعا خوت کی حظیں پھیم</p>
<p>مرجیسید کی مدنی المرے بے دل و جان با و فدا یت پچھبے خوشی</p>	<p>ابیا و گھسکی وہ حسن و جمال مسدی وسکا ہمسر کوئی مل ہی نہ سرو چنی آج عشق اسکی بگزی بھی سبکت بنی</p>

فرش سی عرش نمک ہو گی محجب نمرہ فنِ
جس میہ کتھی بروٹی اوٹھیں گی اور یہ تھے نہ

مر چا سید کی مدینی الحرمی
دل و جان با دخراست پر محجب خوش بقی

بھی شریقہ تیری فتحار لکا قصر کان مجید
تیری ہی قدر پر ہوئی میلک قبا میں تیہ
کیونکہ ہی عامر وہاں سبکی لئی خصوصی
یہی کستا ہوا اوٹھی گا قریب اور مجید

حق نی فجھشی ہی تجھی در زخم و جنست کلید
جانہنہ جس نہ پایا تجھی سبے قطع و سرید
روزہ محشر تیری عاشقی حتمیں ہی تیہ
کوئی آنکھوں کا قبیلہ اور کوئی چتوں لکا شہید

مر چا سید کی مدینی الحرمی
دل و جان با دخراست پر محجب خوش بقی

غزل جرأت لعنت میں

کرسی بندہ گراوسکی مرد و خوی ہی خدا کی
کر جس کا دین روشن آئندہ ہی حق نہیں کا
خیال سا کنان عرش کو پڑا اس سکا
کروشن کرنی والا ہی وہ شمع ہے کہ
سرادوسکی لقب کس کو ملا ہی صفا
کر فخر سلطنت ہی صرتہ وہاں کی گواہی کا
کہ بیرون گاہی روز جزا موجب ہا یہ کا
کہ بتاسا پڑاوس مجبوب ات کبیر یہ کا

محموہ نبی مددوح ذات کبیر یہ یہ کا
پتھر محرفت حق کا ہی وہ مہرا دعوت
بلند اوسکا دیلوان مراثب ہی وہاں
منور کیون نہ اوسکی نور سی ہر خادع
گروہ اہمیا دینین ویسی ہی برگزیدہ حق
کسی ہی نظر لست میرہ آستان سرور عالم
اویسیکی عشقیں پا بند الغفت رو دالہ سو
دلیل اوسکی ہی کتنا اٹی کی میرہ ماری پیسو
غزل لعنت میں

مل نظارہ کو انکھوں سی اوہ شاہی چائے
داغ حربان دل مزون سی بھٹا قی جاتی
روکنی والی اگر لا کرہ مہما سنتے جاتی
وہ بھیان جیسے گریہاں کی اوہ راتی جاتی

وہ بیٹھی جلوہ دیدار کو آئتے جانتے
ہر سحر و میہ ببارکت کنڈارست کرتی
ہائی اقدسی اوہ بھاتی نہ کبھی نکلنے کے
وہ نست بیشتر بیمن تیری تاقہ کی سیچنی

دل دیوانہ کو زنجیر پہنھاتے جاتے پتھر شستا قمین بہر بہر کی لگاتی جاتی بخت خواہید کو مدد کر سی جگاتی جاتی کب اعجاز الکرپ بلاستے جاتی	سر شوریہ کو گیسو پر قدر ق کرتے قدہم پاک کی کنڑاک ہی ہاتھ آجاتی خواب میں دولت بیدار پی طی اگر کافی کشته دیدار کو زندہ کرتے
عزم مذاق لغت میں	

شاہ شاہان جا نجوان جا نجوان پیدا ہوئی خزر آدم خزر دوح قد سیان پیدا ہوئی جس لکھائیں وہ مکین لامکان پیدا ہوئی سر پہنچان سرور یخباران پیدا ہوئی جیکہ احمد قاسم نارو جنان پیدا ہوئی ذکر احمد کو سرا یا ہزاران پیدا ہوئی	دہو صہی ہاملہ میں شاہ انس فیجان پیدا ہوئی خزر نبیا خزر دن خزر میں خزر زمان دمکان ایک کجو مقصود ہی کوئی نہیں کا افسر فوج رسیل سردار خیل انبیا گلشن اسلامی اور جیلی گلزار کھل خڑکو ہی اونکا ہر لکھ رونگٹا اپنا نزد
--	---

عزم الناصم اللہ خان یقین حمد ولغت و متقہت میں	
--	--

نار ساہی شاہین جسکی ہمیہ رکی شنا یا ابو بکر و عمر عثمان و میصر کی شنا خضرت رہاں کی شبیہ و شپر کی شنا کی ہی ساری عمر ترکان ستمگر کی شنا خضرت اوستاد میخی شاہ غلہر کی شنا حصیرہ مرزا اسدالدین خان غارب بلوہی حیثیت حیثیت علی مرضی کرم الدین بھہ	کو ان کر سکتا ہی اوس خلاق اکبر کی شنا سر برہ اوس ہونہوئی سکتی ہی کتفتہ رل یہہ زیان قابل ہی کلب سبائی جو کیجی نام حمد اور سلح کا لینا مجھی زیماضیں جون نماز اپنی پٹا سم صحح لازم کر قیمت حصیرہ مرزا اسدالدین خان غارب بلوہی
---	---

سایہ لار بیدانع سویڈا ہی بکار رینہ شپر شہزادی جو ہر تنگ کس نازہی ریشہ تاریخ صفت دھی شار کاس ہغوش ہن ممکن سی دو عالم کافشا را خواہید ہوئی خندہ کا ہے بیدار	سازیکف رہ نہیں قیض چپن سی بیکار ستی را دھبائی ہی بھرپن سبزہ سبزی چاہرہ دکی طرح درخ پنگ مستقلاہری گلپیں طرب ہی جست کوہ و صحراء پیغموری شوق بلبل
---	--

سرنوشت دوچنان اب ریگ سطر عبار
 قوت نامیده او شکوہی نچھڑی بیکار
 دا صہر کاغذ آتش زده طاووس شکار
 بیول جایکی قرح با وہ بیٹا ق گلزار
 کم کری گوشہ نیخاند مین گر تو دستار
 بن بشل خطا تو خیز ہر خلط پر کار
 طو طلی سبزہ کسار فی پسید استقا
 وہ ری صرد سہ بال پری سی بیزار
 چشم نقش قدم آینہ سجنست بیدار
 گرد اوس دشت کی نامید کو اصر اصر بہا
 عرض خمیازہ ایجاد ہی ہر سوچ غبار
 دل پر دان چرانغان پبلیل گلزار
 ذوق میں جلوہ کی تیری ہجے اسی دیدار
 سلاک ختم میں سہ نو مژہ گو ہر بار
 ہم ریاضت کو تیری حملی سی استظہا
 جا صہی تری عیان با وہ جوش ہمار
 بکھر ف ناشر شرگان دو گرسو غم خار
 خاک ر کی تیری جو پیش منو آینہ دار
 عرض خیازہ سیلا ب ہر طلاق ہیوا
 فیض معنی سی خدا غر راقمہ شہار

حیله هر زار محور فیض خند صرسو دامہ ح مین چنان پمام سین چلیہ السلام
 سوا ی فاک کینہ نکامست دستار
 اگر زردوہی بیکار پر شسب تار

سوپی ہی فیض ہوا صورت شرگان ہیم
 کاف کوئینکئی ناخن تو بانداز ہلال
 بکھت ہر خاک پکر دوں شدہ قمری پرواز
 میکدہ مین پو اگر آرزوی گل جھینی
 سجن گل ڈیونڈ خلو تکڑہ غنچہ باع
 کنچھی کرمائی اندریش چین کی تصویر
 لعل شی کی ہی پی از مردہ مردہ مت
 وہانکی خاشاک سی حاصل ہو جیکے پہ
 خاک صحرائی بخت جو ہر سیر عرف
 ذرہ اوس کر د کا خور شید کو آینہ نہ
 آفرینش کو ہی وہانسی ٹلکیستی
 فیض سی تیری ہی اسی شیخ شہنشہ
 شکل طاؤس کری آینہ خانہ پر حاز
 تیری اولاد کی عمری ہی بروہی گرد
 ہم بجادت کو تیرالنقش قدم ہر نماز
 مرح میں تیری همان ز مردہ بخت بی
 جو سر دست دعا آینہ بیخے تاشیر
 صرد مک سی ہو عزا خاگ اقبال نگاہ
 دشمنی آل بنی کو بکھر ف خانہ د ہر
 دیدہ تادل اسد آینہ بکر تو شوق

حیله هر زار محور فیض خند صرسو دامہ ح مین چنان پمام سین چلیہ السلام
 کر سرنوشت لکی ہی بیکار بخدا عبار
 چن زمانہ کا شبیم سی بھی رہی صردہ

زمانہ سنگ ملامت سی تو نہ تابی نہار
 رسیں خوشی نہ بیرٹی سی بکیا ہی کلے
 صدای نالہ دل بھی محی ترا رکھ بیان
 سنت اوٹھ کی سنگ سی سر کا توڑا پروٹا ر
 شکسی سی نہیں فتنا ہی ایک آن قرار
 بجاسی لشکر مدن آنکھوں سی پوچھتا ہوں
 کہ جبکی بخت کی سو گند کھاسی سی اوبار
 بدل خوشی بستی اس درمیں تکڑا نہار
 کشا دی مرگ کیا ہونہ او سکو آخر کار
 صدای نغمہ واو دنالہ دل رزار
 کری سی راستی پنی سی ہر زمان کفتار
 کہ راست گوکوز مانہ میں کچھی پین فار
 کہ سیو حصی لامعیت مردم جہانی دھار
 گذر گیا چپن فکر کی طرف ناچپار
 کہ بخت دل گری آنکھوںستی پڑا نہار
 کہ بلبل قفس کری گل سی کیا سرو کار
 نہیں کر کر سی بیدم بیری چپن سی گزار
 کہ گل پنی سی ہی کرپبان پیور میں کو پیار
 کمان بخی و طرب کمان ہی ناخن جن تار
 کہ خوب دی دل کوں کرپکار پکار
 فلک نے پردہ خاطر کو بھی کیا سمار
 سو طرح بھی سی دلکو دیجی آزار
 خیال غامر کو یون دیکی اپنی دلھیں قرار

سکردن ہون تھریں دنوان استھان پنج
 عجب نہیں ہی کہ جاتی رسی ہو نیساو
 شر اپن خون جگہی جبی گر کل خش
 رہی انہ شیشہ صحبت کی بیچ کیغیت
 زمانہ دلکو میری کاوید پار کو اب
 زبک دل ہی مکدر میرا زمانہ سی
 کہاں نلکو گری روزگار کاشکرہ
 دل اتو اپنی غم دلکو اب غیمت جان
 کسوہی سی عمر دل یون نہیں کیا دوڑا
 جو گوش ہوش تو کتنا ہو تو پر اپری
 تو سادہ لو جی سی ایمل جہان کی حقیقی
 میں حرف حق کو سنا ہی زیافی منصورا
 خب نہیں کہ ہی ابلیس اس سببی
 شب گذشتہ خپٹ دلخی میں تھا بتا
 سنی میں ایک غزل ملیل طبیعت سی
 نہ پوچھیہ مجسی کمد ہری خزان کہاں ہی
 عجب نہیں ہی کہ با دسموم ہو جاوی
 نہیں ہی شادی ہیم چمن میں دنیا کی
 کمان ہمار کمان ساقی او رکمان ہی فتر
 فلک کے ہاتھ سی راتنی بھی دار ہی تیری
 شکستکی سی مجسی دلکی یون ہوا مسلم
 پڑا پھری ہی اسی فکر میں سدا خالم
 رکھی ہی مجسی خصوص اعداد تبلی

چهار غبغبگرہ دوشت خانہ خوار
 زبس پیراہی سرا سکا ہواہی کج قہہ
 مشیت از لی بھی با گرچہ بھوی برار
 او سی دیارکی گلیون کا ہو جی گا غبار
 کہ فخر عرش ہی کج ہوئی او سکی ختنہ جوار
 خدا نصیب گری جھکو زندگی یکبار
 محمدی سی فرنگی ہجوم کری الہار
 فضا طبیب بنی او رستم ہو بار
 جب و من دیارکی جار و بسیں بیمار
 قضا قضا ہی کری ٹکری گر کر حی تکار
 کہ جسکی رات کی گلی منین ہی ذکر قہہ
 ہمیشہ پھر خور شید سی گرہان ہپاڑ
 میرا سخن ہی سبز تابروز شمار
 شرارستگ مین مین شکنہ بانہ ہامی دار
 منو سواہی ز مرع عقیق یان زہدار
 ہر ایک شاخ دلیں ہبہ نہ کی لاہی ہار
 اگر زمیں پکری ٹوٹ سمجھ رواہ
 عجب ہی لطف کے اوس قطعہ زمین ہوہار
 جو کوئی سیر کری ہادس دیار کا گذار
 پلک کوونڈن اگر کے طرح ہوہ شوار
 جنین ہی سکن ماہاکی دا سطی ہدیا
 عجب نہیں کہا سی شرمی ہموز شمار
 سوہی مرش تجھی سی طوف کو کذار

کے خاک کی اسی شندین بناؤں گلا
 کہ پیر خیال کو اپ لیکھیا ہی میہ سی خر
 چکاؤں کا اسی سے ولیون کریں ہیں
 تو زو سیاہ کر اس پند کا کوئی دین
 چاہکی خاک کو بھی میہ شوف چب کیہی
 جو گلکی ہرگ کو کہنا ہی خنز عسرہ را بد
 جو چک کہ عجب سی کئی صدق سی تھا ور
 خزانہ خواستہ گر آسانی کر دش سی
 فلک سی او سکو ملائک فی اسکی وہاں
 اگر وہ خاک ہی او سکو شفا کی نہیں سکے
 ہی اسقدہ وہ زمین فور سیتی بالا ملک
 اسی پی عتسی چماں دین خلیو کر فی پیچ
 ہوا کی وصفت ہیں اس سچلی گلکہ نہیں چن
 زبس ہوانی ملادو ت کو وہاں کیا پیچ
 مگر اوس ہل قسی ہو جاوی ہجا چھفت
 جو سخل خشک کے تصویر پڑھی وہاں نہی
 عجب نہیں ہی کہ ہوا اوس ہوا کی واتہ
 غرض من کیا کہوں یار و چمن میں قدر کے
 یقین ہی وکلو اکس اکنان جنت سی
 زبس تماشی سی اسکہو کو وہاں نہیں بی
 انہوں کی نظر دنیں ہو گی ہبہ سے کیا قادر
 بہشت غرض کری میہ جما بقدر قدس شہی
 جو گر بلاکی ہیں ماکن او منو غلو ہو میہ فہر